

9949 - خاوند مسلمان ہوچکا ہے اورب#1740#و#1740#؛ نئے اسلام قبول نہیں ک#1740#؛ اوروہ اہل کتاب م#1740#؛ ن سے بھ#1740#؛ ن توک#1740#؛ اس سے معاشرت جائز ہے

سوال

جب شادی شدہ شخص اسلام قبول کرلے لیکن بیوی اسلام قبول نہ کرے اوروہ یہودیہ اورنصرانیہ بھی نہیں اوردونوں کے جنسی تعلقات بھی قائم ہیں توکیا وہ اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ کے مرتکب تو نہیں ہوئے؟ اوراگر بیوی اسلام قبول کرلے اورخاوند نہ کرے اوروہ آپس میں جنسی تعلقات قائم رکھیں تو کیا یہی حکم ان پر بھی لاگو ہوگا

پسنیدہ جواب

الحمد لله.

الحمد لله

مسلمان شخص کے لیے غیرمسلمہ بیوی سے تعلق قائم رکھنا جائز نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اورمشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرلیتیں البقرة (221) -

اوراللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضہ میں نہ رکھو الممتحنة (10) -

اورایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

نہ تو یہ (مسلمان) عورتیں ان (کافروں) کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ (کافر) ان (مسلمان) عورتوں کے لیے حلال ہیں الممتحنة (10) -

اورعمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تواپنی دو بیویوں کو جو کہ مشرکہ تھیں طلاق دے دی تھی ، اورابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مغنی میں اس پر اجماع نقل کرتے ہوئے کہا ہے :

اہل علم میں کافر عورتوں کی تحریم کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا - دیکھیں المغنی ابن قدامہ (503 / 7) -

اللہ عزوجل نے کافر عورتوں میں سے اہل کتاب کی عورتوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے فرمایا :

اور پاکدامن مسلمان عورتیں اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان کی پاکدامن عورتیں بھی حلال ہیں
المائدة (5) -

اللہ تعالیٰ کے فرمان محصنات کا معنی عفت و عصمت والی عورتیں جو زنا کاری نہ کرنے والی ہوں مراد ہیں -

سوال میں مذکورہ بیوی کے اہل کتاب میں نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان خاوند کے لیے اس کے ساتھ معاشرت جائز نہیں اسے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے ، اس لیے کہ اس کے ساتھ تعلقات رکھنے شرعی طور پر صحیح نہیں ، اور تعلقات قائم رکھنے زنا شمار ہو گا جو کہ حرام ہے -

اور اگر بیوی اسلام قبول کر لے اور اس کا خاوند کافر ہی رہے چاہے وہ شخص اہل کتاب میں سے ہو یا کسی اور مذہب کا ان دونوں کا نکاح فوری طور پر بیوی کے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی اوپر بیان کیے گئے دلائل کی بنا پر فسخ ہو جائے گا ، اور وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کافر خاوند پر حرام ہو جائے گی اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ خاوند بھی اسلام قبول نہ کر لے -

واللہ تعالیٰ اعلم -

اسی قسم کے مشابہ سوالات کے جوابات آپ فتاویٰ اسلامیہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں - فتاویٰ اسلامیہ جمعہ الشیخ
محمد المسند (3 / 229) -

واللہ اعلم.